

Psa

Chapter 28

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

תְּחַשֶׁה	פֶּן-	מִמְּנִי	תְּחַרֶּשׁ	אֶל-	צוּרִי	אֶקְרָא	וַיהִה	אֱלֹהֶיךָ	לְדָוִד	1
ٹو-خاموش-ریے	کہیں	مجھ-سے	خاموش-رہ	نہ	میری-چٹان	میں-پکارتا-ہوں	یہوواہ	-تیری-طرف	داؤد-کا	
H2814	H6435			H0408	H6697	H7121	H3068	H0413	H1732	
			בֹּרַח:	יִזְרְחֵי	עִם-	אֲנִי	מִמְּנִי	מִי		
			گڑھا	والوں-کے	گڑھے-میں-اُترنے-والوں-کے	ساتھ	اور-میں-ہو-جاؤں-گا	اور-میں-ہو-جاؤں-گا		
				H3381						

میں گڑھے کے موت میں تو رہے چپ ٹو اگر کیونکہ پھیر۔ نہ سے مجھ منہ اپنا سے خاموشی چٹان، میری اے ہوں۔ پکارتا تجھے میں رب، اے زبور۔ کا داؤد گا۔ جاؤں ہو مانند کی والوں اُترنے

אֶל-	יְדִי	בְּנִשְׁאֵי	אֱלֹהֶיךָ	בְּשׂוֹעֵי	תְּחַנְּנֵנִי	קוֹל	נְשִׁמָּה	2
-کی-طرف	میرے-ہاتھ	-میرے-اُٹھانے-میں	-تیری-طرف	-میری-فریاد-میں	میری-مناجاتوں-کی	آواز	سُن	
H0413	H3027	H5375	H0413	H7768	H8469		H8085	
						קִדְשֶׁךָ:	דְּבִיר	
						تیری-قدس-کی	محراب	
						H6944	H1687	

ہوں۔ اُٹھاتا طرف کی کمرے ترین مُقدس کے گاہ سکونت تیری ہاتھ اپنے میں جب ہوں، مانگتا مدد سے تجھ چلاتے چبختے میں جب سن التجائیں میری

עִם-	שְׁלוֹם	דְּבָרֵי	אָנֹן	פְּעָלָי	וְעִם-	רְשָׁעִים	עִם-	תְּמַשְׁכֵּנִי	אֶל-	3
-ساتھ	سلامتی	بولنے-والے	بدی-کے	کرنے-والوں-کے	اور-ساتھ	شریروں-کے	ساتھ	مجھے-کھینچ	نہ	
	H7965	H1696	H0205	H6466		H7563		H4900	H0408	
						בְּלִבְכֶם:	אֲרָעָה	רַעִיָּה		
						ان-کے-دلوں-میں	اور-بُرائی	اپنے-پڑوسیوں-کے		
						H3824		H7453		

خلاف کے اُن میں دل لیکن کرتے، باتیں دوستانہ بظاہر سے پڑوسیوں اپنے جو ہیں، کرتے کام غلط جو دے نہ سزا کر گھسیٹ ساتھ کے بے دینوں اُن مجھے ہیں۔ باندھتے منصوبے بُرے

יְדִיָּהֶם	כְּמַעֲשֵׂהָ	מַעֲלָלֵיהֶם	וּכְרָעַ	כַּפְּעֵלָם	לָהֶם	תָּן-	4
ان-کے-ہاتھوں-کے	-کام-کے-مطابق	ان-کے-کاموں-کی	اور-بُرائی-کے-مطابق	ان-کے-کام-کے-مطابق	-ان-کے-انہیں	دے	
H3027	H4639	H4611	H7455	H6467	H1992	H5414	
					לָהֶם:	תָּן	
					ان-کے-بدلہ	دے	
					H1992	H5414	

جتنا دے پہنچا نقصان ہی اتنا اُنہیں دے۔ سزا پوری کی اُس بے ہوا سرزد سے ہاتھوں کے اُن کچھ جو دے۔ بدلہ کا کاموں بُرے اور حرکتوں کی اُن اُنہیں بے-پہنچایا کو دوسروں نے اُنہوں

יְדִי	מַעֲשֵׂהָ	וְאֶל-	יְהוָה	פְּעֻלָּתֶךָ	אֶל-	יְבִינוּ	לָא	כִּי	5
اُس-کے-ہاتھوں-کے	کام-کو	اور-نہ	یہوواہ-کے	کاموں-کو	کے	وہ-سمجھتے	نہیں	کیونکہ	
H3027	H4639	H0413	H3068	H6468	H0413	H0995	H3808		
						יְבָנֶם:	וְלֹא	יְהִרְסֶם	
						انہیں-بنائے-گا	اور-نہیں	وہ-انہیں-ڈھا-دے-گا	
						H1129	H3808	H2040	

گا۔ کرے نہیں تعمیر کبھی دوبارہ اور گا دے ڈھا انہیں اللہ ہیں۔ دیتے توجہ پر کام کے ہاتھوں کے اُس نہ پر، اعمال کے رب وہ نہ کیونکہ

6 **בְּרוּךְ יְהוָה** **כִּי** **שָׁמַע** **קוֹל** **תְּחִנּוֹתַי**
مبارک ہے یہوواہ کیونکہ اُس نے سنی آواز میری-مناجاتوں-کی
[H1288](#) [H3068](#) [H8085](#) [H8469](#)

لی۔ سن التجا میری نے اُس کیونکہ ہو، تمجید کی رب

7 **יְהוָה** **עָזַר** **וּמְנִי** **בְּ** **כַּח** **לְבִי** **וְנִעֲזַרְתִּי** **וְנִעֲזָר**
یہوواہ میری-قوت-ہے اور-میری-ڈھال اور-میری-مدد-ہوئی اور-خوشی-منایا
[H3068](#) [H5797](#) [H4043](#) [H0982](#) [H5826](#) [H5937](#)

לְבִי **וּמְשִׁירִי** **אֶהְדָּנֶנּוּ**
میرے-دل-نے اور-اپنے-گیت-سے میں-اُس-کی-حمد-کرتا-ہوں
[H3034](#)

ستائش کی اُس کر گا گیت میں ہے، بجاتا شادیاں دل میرا ہے۔ ملی مدد مجھے سے اُس رکھا، بھروسا نے دل میرے پر اُس ہے۔ ڈھال میری اور قوت میری رب بوں۔ کرتا

8 **יְהוָה** **עֲזָר** **לְמוֹ** **וּמְעֹז** **יְשׁוּעוֹת** **מְשִׁיחוֹ** **הוּא**
یہوواہ قوت اُن-کے-لیے اور-پناہ-گاہ اور-پناہ-رکھا اپنے-مسیح-کا وہ-ہے
[H3068](#) [H5797](#) [H4581](#) [H3444](#) [H4899](#) [H1931](#)

ہے۔ قلعہ بخش نجات کا خادم ہوئے کئے مسح اپنے اور قوت کی قوم اپنی رب

9 **וְהוֹשִׁיעָה** **אֶת** **עַמּוֹ** **וּבְרָךְ** **אֶת** **נַחְלָתָךְ** **וְרַעִים** **עַד** **הָעוֹלָם**
بچا کو اپنی-قوم اور-برکت-دے کو اپنی-میراث اور-انہیں-چرا اور-انہیں-اٹھا تک -ابدیت-کی
[H3467](#) [H0853](#) [H1288](#) [H0853](#) [H5159](#) [H5704](#) [H5375](#) [H5769](#)

رکھ۔ اٹھائے تک ہمیشہ انہیں کے کر بانی گلہ کی اُن دے! برکت کو میراث اپنی دے! نجات کو قوم اپنی رب، اے